

سٹی برامپٹن میں دوسرا سالانہ سپورٹس ڈے منعقد کر رہا ہے

اتوار، 6 اپریل کو کوئی کھیل مفت آزمائیں۔

برامپٹن، آن (2 اپریل 2019) – رہائشیوں کو بروز اتوار، 6 اپریل 2019 کو برامپٹن میں سٹی کے منعقد کردہ دوسرے سالانہ سپورٹس ڈے پر اپنی کمیونٹی میں کھیلوں کے بارے میں جاننے کے لیے دعوت دی جاتی ہے۔

یہ تقریب چست ہونے، برامپٹن میں بچوں کے کھیلوں کے گروہوں سے جڑنے یا نئے کھیل اور سرگرمیاں آزمانے کے ہر خواہشمند شخص کے لیے ہے۔

فوراً آ کر کھیلنے کے لیے مفت کھیلوں میں جمناسٹکس، سافٹ بال، بیس بال، لیکروس، کبڈی، کرکٹ، ساکر، ٹریک، ویل چیئر باسکٹ بال، ہاکی، تیراکی اور مزید شامل ہیں۔ یہ صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک برامپٹن ساکر سینٹر اور کیسی کیمپ ہیل کمیونٹی سینٹر میں منعقد کیے جائیں گے۔

یہ پروگرام سٹی، اس سے منسلک نوجوانوں کے کھیلوں کی تنظیموں، برامپٹن سپورٹس الائنس اور کمیونٹی میں کھیلوں کے دیگر فراہم کنندگان کی جانب سے پیش کیے جا رہے ہیں۔ خاندانوں کو بچوں کے کھیلوں کے ہمارے مقامی گروہوں سے ملنے اور ان کے پروگراموں اور برامپٹن میں دستیاب وسیع اقسام کی سرگرمیوں کے بارے میں جاننے کی دعوت دی جاتی ہے۔

شرکاء کے پاس تین مہریں حاصل کرنے پر ایک انعامی قرعہ اندازی میں شامل ہونے کا موقع بھی حاصل ہو گا – جو اس روز آزمائے گئے ہر کھیل پر ایک ملے گی۔

تقریب کے مکمل شیڈول کے لیے، www.brampton.ca/recreation ملاحظہ کریں۔

مزید حقائق

- برامپٹن کے پاس 268 سے زیادہ کھیلوں کی اندرونی اور بیرونی جگہیں، 30 تفریحی سہولت گاہیں، 15 آئیسی پیڈز، 13 سومنگ پولز، سات فٹنس سینٹرز، چار بیرونی اسکیتنگ رنکس، ایک 9 سوراخوں والا عوامی گالف کورس اور ایک اسکی ہل ہے۔
- سٹی کو سب سے زیادہ تیراکی، کیمپس اور کھیلوں کے لیے رجسٹریشنز موصول ہوتی ہے۔
- برامپٹن میں نوجوانوں کے کھیلوں کے 20 منسلک گروہ، جن میں 20,000 شرکاء ہیں، اور 80 بالغان کے کمیونٹی گروہ موجود ہیں۔

اقتباس

"برامپٹن کے پاس غیر معمولی اٹھلیٹس اور کھیلوں کے وقف شدہ مداح پیدا کرنے سے بھرپور کھیلوں سے جڑی تاریخ موجود ہے۔ کھیل لطف اندوز ہونے، دوست بنانے اور ایک چست، صحت مند طرز زندگی برقرار رکھنے کا بہترین طریقہ ہیں۔ برامپٹن میں اسپورٹس ڈے نوجوان لوگوں کی مختلف انتخابات جاننے اور کوئی ایسا کھیل ڈھونڈنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، جس سے وہ لطف اندوز ہوتے ہوں۔"

- میئر پیٹرک براؤن

سٹی آف برامپٹن کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے، www.brampton.ca ملاحظہ کریں یا ہمیں ٹوئٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر فالو کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca